

## MODEL PAPER (9TH CLASS)

### BIOLOGY (Objective Type)

Paper : I

Time Allowed : 15 Minutes

Maximum Marks : 12

بیالوجی (مروضی طرز)

I پچھے :

وقت : 15 منٹ

کل نمبر : 12

نوت : ہر سوال کے چار ممکن جوابات A, B, C, D دیے گئے ہیں۔ جو ای کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق مغلق دائرة کو مار کر یا پین سے بھروسے بھجو۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پکڑنے یا کاٹ کر پکرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہو گا۔

Note : Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question with Marker or Pen ink in the answer-book. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

1-1	فارماکالوجی مطالعہ کرتا ہے :	(A) حشرات کا Insects	Drugs ڈرگز کا (B)	Fossils کا فسولز (C)	Tissues (D)
2	مشہدات کی غیر حقیقتی وضاحت کہلاتی ہے :	(A) پائیوروجیکل پرائم Hypothesis (D)	Theory تئوری (B)	Biological problem (C)	پنسل Principle (D)
3	تمام لائف بکٹیریا اور ای طرح کی یونیسلو را آرگنزم پر مشتمل تھی :	(A) 400 میلین سال پہلے 500 million years ago (B)	400 million years ago (C)	600 میلین سال پہلے 700 million years ago (D)	500 میلین سال پہلے 400 million years ago (B)
4	آرگنزم جو اپنی پوری زندگی ایمبریونیں بناتے :	(A) Plants بوادے	Animals جانور (B)	Algae الگی (C)	Fungi (D)
5	جانداروں کا ایسا گروپ جو بار آور جاندار پیدا کرنے کے لیے جنسی تولید کر سکیں، کہلاتے ہیں :	(A) ایکوسسٹم Ecosystem	پاپلش (B)	کینونی Community (C)	پیشیز Species (D)
6	سل میں RNA بانے والا سیاه نشان کہلاتا ہے :	(A) Ribosome رائبوسوم	Cell membrane سل ممبرین (B)	Mitochondria میٹاکنڈریا (C)	Nucleus نوکس (D)
7	سل سائکل کے اقدام ہوتے ہیں :	(A) In order ترتیب میں	(B) Directional کمی	(C) Ordered and directional کمی گرت ترتیب میں نہیں	(D) Directional but not in order کمی گرت ترتیب میں نہیں
8	سائی نیکسی اوس کی فیزی میں بنتے ہیں :	(A) Prophase I پروفیز ۱	Metaphase II میتافیز ۲ (B)	Prophase II میتافیز ۱ (C)	Metaphase I میتافیز ۱ (D)
9	دیا میں A کی کی بہبختی ہے :	(A) Goitre گاؤٹرے	Rickets کا ریکٹس (B)	Night blindness نایٹ بلینڈنیس کا (C)	Merasmus میراسم (D)
10	ڈیفوس ہونے والے مالیکول ڈائیفوسٹم سے جسم کے میزستخون کے ذریعے جس عمل سے پہنچتے ہیں :	(A) Assimilation اسیلیشن	Ingestion انجیشن (B)	Digestion ڈیجیشن (C)	Absorption ابزورپشن (D)
11	اکثر پودوں میں خوارک جس شکل میں ٹرانسپورٹ کی جاتی ہے :	(A) Glucose گلوکوز	Starch سکرڈ (B)	Sucrose سکرور (C)	Proteins پروٹئن (D)
12	پانکreas پر ایجاد کیے جانے والے ایجینٹز ایم پیدا کرنے کے بعد جاہاں خارج کرتی ہیں :	(A) Colon کالن	Gall bladder گال بلڈر (B)	Liver جگر (C)	Duodenum ڈوڈینیم (D)



**MODEL PAPER (9TH CLASS)**

**BIOLOGY (Essay Type)**

Paper : I

Time Allowed : 1.45 hours

Maximum Marks : 48

بیالوجی (انٹائی طرز)

I : چھ

وقت : 1.45 گھنٹے

کل نمبر : 48

( PART - I )

2. کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے :

- (i) Write how we summarize the results in scientific method?
- (ii) How primary wall is different from secondary wall?
- (iii) How would you define horticulture?
- (iv) How grasses repair their parts which are lost by herbivores?
- (v) Why soil and forests are destroying?
- (vi) What happened if optimum temperature of certain enzyme is raised upto 5°C?
- (vii) Why population of Indus dolphin has declined?
- (viii) Draw and label diagram of fluid-mosaic model of cell membrane.

3. کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے :

- (i) Differentiate autotrophs and heterotrophs.
- (ii) Write two characteristics of kingdom protista.
- (iii) Define cell cycle.
- (iv) Identify changes which occur during S-phase of cell cycle.
- (v) Interpret  $G_0$  phase.
- (vi) Show binary fission with the help of labelled diagram.
- (vii) Enlist name of products produced during photosynthesis.
- (viii) Summarize the photolysis of water.

4. کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے :

- (i) Write the difference between anabolism and catabolism.
- (ii) How do enzymes lower the activation energy of chemical reactions?
- (iii) What is the active site of an enzyme?
- (iv) What are the main functions of dietary fibre in the human diet?
- (v) Write the two roles of lipids in human body.
- (vi) Define transpiration.
- (vii) What is pus and how it is formed?
- (viii) What are the symptoms of dengue fever?

( PART - II )

Note : Attempt any TWO questions.

نوت : کوئی سے دو سوالات کے جوابات لکھئے۔

- 5. (a) Write detail of molecular level and tissue level.
- (b) Explain cell membrane with the help of labelled diagram.
- 6. (a) Analyze five kingdom systems of classification.
- (b) Write comprehensive report of steps of photosynthesis.
- 7. (a) How would you explain the functions of associated organs of liver?
- (b) How blood transfusion takes place in ABO blood group system?

